

8

أحِبُّ بِلَادِيْ

(میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں)

8.1 سبق کا تعارف:

یہ سبق اپنے وطن ہندوستان کے بارے میں ہے۔ وطن کے کہتے ہیں اور وطن ہمیں کیا دیتا ہے اور وطن کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ سب باتیں گنتگو کے انداز میں اس سبق میں پیش کی گئی ہیں۔

8.2 اس سبق سے آپ کیا سیکھیں گے:

آپ اس سبق میں اپنے وطن ہندوستان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ اس سبق کے ذریعہ آپ اپنے وطن کا عربی زبان میں مختصر تعارف کر سکیں گے۔ ساتھ ہی ”اسم“ کی مختلف شکلیں آپ کے سامنے آئیں گے۔

8.3 اصل متن:

نَبِيل طالب مجتهد في المَدْرَسَة، هُوَ يَدْرُسُ فِي الصَّفَّ الْعَاشرِ

وَيَذْهَبُ إِلَى المَدْرَسَةِ صَبَاحًا وَيَعُودُ إِلَى بَيْتِه بَعْدَ الظَّهَرِ.

دَخَلَ مُدَرِّسُ الجُغرَافِيَّ الفَصْلَ وَقَالَ: صَبَاحَ الْخَيْرِ يَا أَيُّهَا التَّلَامِيْدُ.

قال التلاميذ: صباح النور يا أستاذ.

رسَم المُدَرِّس عَلَى السُّبُورَةِ خَرِيطَةً وَ سَأَلَ نَبِيلًا : ما هَذِهِ يَا نَبِيل؟

نَبِيل: إنَّهَا خَرِيطَةُ بِلَادِنَا الْهِنْدِ.

المُدَرِّسُ: أَخْسَنْتَ يَا نَبِيل، هَذِهِ هِيَ خَرِيطَةُ بِلَادِنَا الْعَظِيمَةِ، وَ بِلَادِنَا وَاسِعَةٌ

وَ كَبِيرَةٌ، وَ لَهَا تَارِيخٌ قَدِيمٌ جِدًّا. وَ بِلَادِنَا الْهِنْدِ دُولَةٌ دِيمُقْرَاطِيَّةٌ فِيهَا
تِسْعٌ وَ عَشْرُونَ وِلَائِيَّةً وَ عَاصِمَتُهَا مَدِينَةٌ نِيُودُلْهِيٌّ، وَ مِنَ الْمُدُنِ الْكُبْرَى
فِي الْهِنْدِ. مُمْبَايٍ وَ كُولُكَتا وَ تِشِينَايٍ وَ حِيدَرَآبَادُ وَ لَكُنَاؤُ.

فَاطِمَةُ: بِلَادِنَا الْهِنْدِ هِيَ وَطَنُنَا، وَ نَحْنُ نُحِبُّ وَطَنَنَا.

نَبِيل: هل تَعْرِفِينَ يَا فَاطِمَةُ مَا مَعْنَى الْوَطَنِ؟

فَاطِمَةُ: وَطَنُنَا هُوَ مَكَانُ مَوْلِدِنَا وَ أَرْضُ آبَائِنَا وَ أَجَدَادِنَا، وَ هُوَ أَرْضُ نَمْشِي
عَلَيْهَا وَ نَعِيشُ تَحْتَ سَمَاءِهَا.

حَامِدُ: وَ إِنَّ بِلَادِنَا بِلَادُ الْحَضَارَاتِ وَ الشَّفَافَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ، وَ فِيهَا لُغَاتٌ كَثِيرَةٌ
يَنْطِقُ بِهَا النَّاسُ فِي شَرْقِهَا وَ غَربِهَا وَ شَمَالِهَا وَ جَنُوبِهَا.

سَلْمَى: وَ إِنَّ فِي بِلَادِنَا آنَهَا رَا كَثِيرَةً تَنْبَعُ مِنْ جِبَالِهَا وَ تَجُرِي فِي سُهُولِهَا
وَ تَصُبُّ فِي الْبَحْرِ الْعَرَبِيِّ وَ فِي خَلِيجِ الْبَنْغَالِ.

فَاطِمَةُ: وَ كَانَتْ بِلَادِنَا الْهِنْدِ مَعْرُوفَةً لِتَوَابِلِهَا وَ لِسُيُوفِهَا فِي الْمَاضِيِّ وَ تَقَدَّمَتْ
بِلَادِنَا وَ تَطَوَّرَتْ فِي الْعَصْرِ الْحَاضِرِ فِي الْعُلُومِ وَ التَّكْنُولُوْجِيَّاتِ وَ هِيَ
تُنَافِسُ الدُّولَ الْمُتَقَدِّمَةَ خَاصَّةً فِي تِكْنُولُوْجِيَّاتِ الْمَعْلُومَاتِ.

المُدَرِّسُ: وَ مَا هِيَ وَاجِبَاتُنَا نَحْوَ الْوَطَنِ؟

نَبِيلُ: مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْنَا أَنْ نَحْمِيَ وَطَنَنَا وَ نَحْرُسَهُ. وَ مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُحِبَّ
كُلَّ مُواطِنٍ وَ نُحِبَّ الْخَيْرَ لَهُ إِذْ أَنَّ الْوَطَنَ لِلْجَمِيعِ وَ لَا فَرْقَ بَيْنَ رَجُلٍ

وَ إِمْرَأَةٍ وَ بَيْنَ كَبِيرٍ وَ صَغِيرٍ.

فاطمة:

وَ مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْنَا أَيْضًا أَن نَدْرُسَ بِجِدٍ وَ عِنَاءً لِكَيْ نَكُونَ أَطْبَاءَ
وَ مُهَنْدِسِينَ وَ مُعَلِّمِينَ وَ رِجَالَ الْأَعْمَالِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ.

المدرس:

وَ وَطَنُكَ مِثْلُ بَيْتِكَ، فَحَافِظْ عَلَى نِظَامِهِ كَمَا تَحَافِظْ عَلَى نِظامِ بَيْتِكَ،
وَ أَحْبَبِ الْوَطَنَ كَمَا تُحِبُّ وَالِدِيْكَ، وَ دَافِعْ عَنْهُ كَمَا يُدَافِعُ الْمَرْءُ عَنْ
أَهْلِهِ وَ أَبْنَائِهِ. فَالْوَطَنُ عَزِيزٌ وَ مَحْبُوبٌ.

نوت: جن کلمات کے نیچے خط کھینچا گیا ہے وہ سب اسم ہیں۔

8.4 عبارت کا ترجمہ:

نبیل اسکول میں ایک محنتی طالب علم ہے۔ وہ دسویں درجہ میں پڑھتا ہے۔ وہ صبح اسکول جاتا ہے
اور دوپہر کے بعد واپس گھر آتا ہے۔

جغرافیہ کے ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے اور کہا اے شاگردو!

تمہاری صبح اچھی ہو۔

شاگردوں نے کہا اے استاد آپ کی صبح بھی پر نور ہو۔

استاد نے بلیک بورڈ پر ایک نقشہ بنایا اور نبیل سے پوچھا۔

یہ کیا ہے اے نبیل؟

نبیل: یہ ہمارے ملک ہندوستان کا نقشہ ہے۔

شاپاش نبیل! یہ ہمارے عظیم ملک کا نقشہ ہے۔ ہمارا ملک وسیع ہے اور بڑا ہے۔ اس کی بہت قدیم تاریخ
ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے اس میں انگلیس ریاستیں ہیں۔ اس کی راجدھانی نیودہلی
ہے۔ اس کے بڑے شہروں میں مومبای، کولکتا، چنئی، حیدرآباد اور لکھنؤ ہیں۔

- فاطمہ: ہمارا ملک ہندوستان ہمارا وطن ہے اور ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے۔
- نبیل: فاطمہ کیا تم کو معلوم ہے وطن کا مطلب کیا ہے؟
- فاطمہ: ہمارا وطن ہماری جائے پیدائش ہے اور ہمارے باپ دادا کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جس پر ہم چلتے ہیں اور جس کے آسمان کے نیچے ہم رہتے ہیں۔
- حامد: ہمارا ملک مختلف تہذیبوں اور ثقافتوں کا ملک ہے، اس میں مختلف زبانیں ہیں جنھیں لوگ ملک کے مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں بولتے ہیں۔
- سلیمانی: ہمارے ملک میں بہت سی ندیاں ہیں جو پہاڑوں سے نکلتی ہیں اور میدانی علاقوں میں بہتی ہیں اور بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں جا کر گرتی ہیں۔
- فاطمہ: ہمارا ملک ہندوستان ماضی میں مسالوں اور تلواروں کے لیے مشہور تھا، ہمارے ملک نے جدید دور میں سائنس اور ٹکنالوجی میں کافی ترقی کی ہے اور ترقی یافتہ مالک سے ٹکنالوجی کی معلومات کے میدان میں مقابلہ کرو رہا ہے۔
- استاد: وطن کے لیے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں؟
- نبیل: ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں: ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر ہم وطن سے محبت کریں اور اس کے لیے بھلا چاہیں کیونکہ وطن سب کا ہے اور اس میں کسی مرد یا عورت اور چھوٹے بڑے میں کوئی فرق نہیں ہے۔
- فاطمہ: ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم محنت و مشقت سے پڑھیں تاکہ مستقبل میں ڈاکٹر، انجینئر، استاد اور برنس میں بینیں۔
- استاد: اور تمہارا وطن تمہارے گھر کی طرح ہے۔ اس کے نظام کا خیال رکھیے جیسے آپ اپنے گھر کے نظام کا خیال رکھتے ہیں۔ وطن سے محبت کیجیے جیسے آپ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور وطن کا دفاع کیجیے جیسے انسان اپنے بیوی بپوں کا دفاع کرتا ہے۔ کیونکہ وطن پیارا اور محبوب ہوتا ہے۔

8.5 مشکل الفاظ اور ان کے معانی:

درجہ	صف ج صُفُوق	نقشہ	خریطہ
(State)	وِلَايَةٌ جِ وِلَايَاتٌ	بلیک بورڈ	سُبُورَةٌ
تہذیب	حَضَارَةٌ جِ حَضَارَاتٌ	راجدھانی	عَاصِمَةٌ
کچھر	ثَقَافَةٌ جِ ثَقَافَاتٌ	دریا، ندی	نَهْرٌ جِ انْهَارٌ
پانی گرا، گرتا ہے	(زمین) سے پانی نکلایا صَبَبْ يَصْبُبْ	(نکلے گا)	نَبَعَ يَنْبَعُ
ذیوئی	وَاجِبٌ جِ وَاجِباتٌ	مسالے	تَوَابِلُ (واحد تَابِلُ و تَابِلُ)
ن	وَبْلِ الْأَحْسَابِ	ش	
ل		ل	لِلْأَمَانِ

8.6

مشنبر 1: مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب لکھیے:

- 1 هَلْ نَبِيلٌ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ؟
- 2 مَنْ دَخَلَ الْفَصْلَ؟
- 3 كَمْ وِلَايَةً فِي الْهِنْدِ؟
- 4 مَا مَعْنَى الْوَطَنِ؟
- 5 لِمَاذَا نُحِبُّ بِلَادَنَا؟

مشق نمبر 2: درج ذیل الفاظ کو ترتیب دے کر جملے بنائیے:

صَبَاحًا	الْمَدْرَسَةِ	يَذْهُبُ	إِلَى	نَبِيلٌ
الْعَظِيمَةِ	هَذِهِ	بِلَادِنَا	خَرِيطةُ	هِيَ
نَمْشِي	وَطَنُنَا	الْأَرْضُ	الَّتِي	عَلَيْهَا
مِثْلُ	الْكَبِيرِ	الْوَطَنُ	بَيْتِكَ	هُوَ
وَالِدِينُكَ	كَمَا	أَحَبِبْتُ	الْوَطَنَ	

مشق نمبر 3: خالی جگہوں کو مناسب اسم موصوف سے پر کریں:

الْعَرَبِيَّةُ سَهْلَةٌ. -1

نَبِيلٌ مُجْتَهِدٌ. -2

هَذِهِ سَوْدَاءٌ. -3

تِلْكَ كَبِيرَةٌ. -4

الْوَطَنُ مِثْلُ الْكَبِيرِ. -5

مشق نمبر 4: خط کشیدہ الفاظ پر اعراب لگائیے اور وجہ بتائیے:

-1 رَسَمَ المعلم عَلَى السُّبُورَةِ خَرِيطةً.

-2 إِنَّهَا خَرِيطةٌ بِلَادِنَا الْهِنْدِ.

-3 مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نَحْمِيَ الْوَطَنَ.

- 4 - إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادُ الْحَضَارَاتِ.

- 5 - وَطَنُكَ مِثْلُ بَيْتِكَ.

مشق نمبر 5: مذکور، موئش اور واحد تثنیہ جمع کا خیال رکھتے ہوئے خالی جگہوں

کوپر کیجیے:

- | | | |
|-------|-----|--------------|
| | - 1 | الْقَمَرُ |
| | - 2 | السَّمَاءُ |
| | - 3 | الرَّجُلَانِ |
| | - 4 | الآبَاءُ |
| | - 5 | الْبَنَاتُ |

مشق نمبر 6: اپنے وطن کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں درج ذیل مثال کے مطابق پانچ

جملے بنائیے:

مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ فُحِّبَ الْوَطَنُ.

- | | | |
|-------|-----|----------------------|
| | - 1 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ |
| | - 2 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ |
| | - 3 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ |
| | - 4 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ |
| | - 5 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ |

مشق نمبر 7: خالی جگہوں کو مناسب مضاف کے ذریعہ پر کیجیے:

- | | |
|---|----|
| الْبَيْتِ مُغْلَقٌ. | -1 |
| هَذِهِ حَامِدٍ. | -2 |
| الْمَدْرَسَةِ مُمْتَازَانَ. | -3 |
| الْهِنْدِ نَشِيطَاتُ. | -4 |
| الْمَدِينَةِ الْمُنَورَةِ زَاهِدُونَ. | -5 |

8.7 اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا:

اس سبق سے آپ نے اپنے وطن ہندوستان کے بارے میں ضروری باتیں جانیں اور وطن کے لیے آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں ان سے واقفیت حاصل کی۔ اس کے علاوہ اسم کے بارے میں بھی جانا۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے میں مکمل معنی رکھتا ہوا وہ اس میں ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی زمانہ نہ ہو۔ اسم مذکروں میں سے کوئی زمانہ نہ ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اور واحد تثنیہ اور جمع بھی۔

8.8 جوابات:

مشق نمبر 1: سوالوں کے جوابات:

- | | |
|--|----|
| نَعَمْ، نَبِيلٌ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ. | -1 |
| دَخَلَ مُدَرِّسُ الْجُغْرَافِيَا الفَصْلَ. | -2 |
| فِي الْهِنْدِ تَسْعَ وَعَشْرُونَ وَلَا يَةً. | -3 |
| الْوَطَنُ مَكَانٌ مَوْلِدُنَا وَأَرْضُ آبَائِنَا وَأَجَدَادِنَا. | -4 |
| نُحِبُّ بِلَادَنَا لِأَنَّهَا وَطَنُنَا. | -5 |

مشق نمبر 2: ترتیب سے بنائے ہوئے جملے:

- يَذْهَبُ نَبِيلٌ إِلَى الْمَدْرَسَةِ صَبَاحًا.
- هَذِهِ هِيَ خَرِيفَةُ بِلَادِنَا الْعَظِيمَةِ؟
- وَطَنُنَا هُوَ الْأَرْضُ الَّتِي نَمْشِي عَلَيْهَا.
- الْوَطَنُ مِثْلُ بَيْتِكَ الْكَبِيرِ.
- أَحْبَبُ الْوَطَنَ كَمَا تُحِبُّ وَالْدَّيْكَ.

مشق نمبر 3: خالی جگہوں پر مناسب موصوف:

- الْعَرَبِيَّةُ لُغَةُ سَهْلَةٍ.
- نَبِيلٌ طَالِبٌ مُجْتَهِدٌ.
- هَذِهِ سَبُورَةٌ سَوْدَاءُ.
- تِلْكَ سَيَارَةٌ كَبِيرَةٌ.
- الْوَطَنُ مِثْلُ بَيْتِكَ الْكَبِيرِ.

مشق نمبر 4: لفظوں کے نیچے لائن کھینچے ہوئے الفاظ کا اعراب اور اس کی وجہ:

- | | |
|-----------------|--|
| 1 - الْمَعْلُمُ | مرفوع ہے اس پر ضمہ آئے گا کیونکہ وہ فاعل ہے۔ |
| 2 - خَرِيفَةٌ | مرفوع ہے اس پر ضمہ آئے گا کیونکہ وہ ان کی خبر ہے۔ |
| 3 - الْوَطَنُ | منصوب ہے اس پر فتحہ آئے گا کیونکہ وہ مفعول ہے۔ |
| 4 - بِلَادِنَا | منصوب ہے اس پر فتحہ آئے گا کیونکہ وہ ان کا اسم ہے۔ |
| 5 - بَيْتِكَ | محروم ہے اس پر کسرہ آئے گا کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے۔ |

مشق نمبر 5: خالی جگہوں پر مناسب الفاظ:

- | | | |
|----|--------------|-----------------|
| -1 | الْقَمَرُ | کَبِيرٌ. |
| -2 | السَّمَاءُ | زَرْقاءُ. |
| -3 | الرَّجُلَانِ | مُسَافِرٍ أَنِ. |
| -4 | الآباءُ | شَفِيقُونَ. |
| -5 | الْبَنَاتُ | نَشِيطَاتٌ. |

مشق نمبر 6: پانچ جملے وطن کے لیے ذمہ داری سے متعلق:

- | | |
|----|--|
| -1 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نَحْمِيَ الْوَطَنَ. |
| -2 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نَحْرُسَ الْوَطَنَ. |
| -3 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نُحِبَّ كُلَّ مُوَاطِنٍ. |
| -4 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نَدْرُسَ بِجِدٍ وَ عِنَاءً. |
| -5 | مِنَ الْوَاجِبِ أَنْ نَكُونَ طَيِّبِينَ. |

مشق نمبر 7: خالی جگہوں پر مناسب مضاف:

- | | |
|----|--|
| -1 | بَابُ <u>الْبَيْتِ</u> مُغْلَقٌ. |
| -2 | هَذِهِ <u>كُرَاسَةُ حَامِدٍ</u> . |
| -3 | طَالِبًا <u>المَدْرَسَةِ</u> مُمْتَازًا. |
| -4 | نِسَاءُ <u>الْهِنْدِ</u> نَشِيطَاتٌ. |
| -5 | <u>مُسْلِمُو</u> <u>الْمَدِينَةِ</u> <u>الْمُنَوَّرَةِ</u> زَاهِدُونَ. |